

ابتلا و آزمائش: کامیابی کیسے؟

(دوسری اور آخری قسط)

پروفیسر امیر الدین مہر^o

ابتلا و آزمائش میں ثابت قدم رہنے اور اس سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کے متعدد طریقے اور راستے ہیں۔ مومن کی حیثیت سے ان کو سامنے رکھنا اور ان میں سے اپنی حالت کے مطابق کسی ایک دو یا زیادہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

عقیدہ توحید پر ایقان

ابتلا و آزمائش میں سے کامیابی سے گزرنے کے لیے بنیادی بات عقیدہ توحید پر پختہ ایمان ہے۔ جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی آسانی سے مومن ابتلا و آزمائش سے گزر جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بڑی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن عقیدے کی پختگی کی وجہ سے ذرہ برابر قدم ڈگمگانے اور پسپائی اختیار کرنے کی حالت و کیفیت ان کے نزدیک نہیں آئی۔ حضرت بلالؓ پر کفار مکہ نے کتنی سختیاں کیں لیکن احد، احد ہی پکارتے رہے اور ابتلا و آزمائش سے نکل آئے۔ ایسے سیکڑوں صحابہ کرام و تابعین تھے جنہوں نے اس طرح کا مظاہرہ کیا۔ ابتلا و آزمائش کے بعد کے ادوار میں ایسے بہت سے مومن نظر آتے ہیں جو توحید کے عقیدے پر مضبوط ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو کر نکلتے دکھائی دیتے ہیں۔

o ڈاکٹر، غزالی اکیڈمی، میرپور خاص

موجودہ دور کی گونا گوں آزمائشیں جیسے مصر میں اخوان المسلمین، اور وسطی ایشیا کے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ فلسطین و عراق کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، افغانستان میں بارود اور لوہے کی آگ برسائی گئی اور خون کے دریا بہائے گئے۔ پل چرخی اور گوانتاما مو کی بدنام زمانہ جیلوں میں اللہ کے نام لیواؤں کو روح کو لرزہ دینے والی اذیتیں دی گئیں لیکن اللہ کے بندے عقیدہ توحید پر پختہ یقین اور تعلق باللہ کی وجہ سے ذرا برابر نہیں ڈمگائے اور ایک دفعہ پھر سنت ابراہیمیؑ کو دنیا کے سامنے زندہ کر دیا۔

ابتلا و آزمائش کی دو صورتیں ہیں: ایک طرف ظلم و ستم خود اپنی ذات پر اور بعض اوقات بیوی، بچوں اور خاندان والوں پر۔ اگر یہ کارگر نہ ہو تو پھر دولت اور جاہ و جلال کی طمع اور خوف۔ امام احمد بن حنبلؒ پر جب تک کوڑے برستے رہے بڑی ہمت و جرأت سے برداشت کرتے رہے لیکن جب دولت پیش کی گئی تو گھبرا گئے اور رونے لگے۔

آخرت پر یقین

اسلام میں آخرت کا عقیدہ اساسی و بنیادی ہے۔ کئی دور میں قرآن مجید نے اسے مختلف طریقوں سے بیان کر کے اپنے پیروکاروں کو ذہن نشین کرایا ہے۔ قرآن مجید کی ۱۱۴ میں سے ۱۰۰ سورتوں میں آخرت کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر جتنی تفصیل آخرت کے بارے میں ہے اور جنتیوں اور دوزخیوں کے باہمی مکالمے، گفتگوئیں اور ان کی خواہشات بیان ہوئی ہیں، توحید و رسالت کے بعد شاید ہی کسی اور عقیدے کی اتنی تفصیل بیان ہوئی ہو۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے پختہ عقیدے کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے اور انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر اور نشوونما میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔

تعلق باللہ

ابتلا سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کا توحید کے بعد سب سے مضبوط اور یقینی طریقہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا اور اسے پختہ کرنا ہے۔ ابتلا کے جتنے واقعات قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں ان کے اختتام پر تعلق باللہ کو مختلف پیرایوں سے بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ ملک (۶۷: ۳-۴)، سورہ قلم (۶۸: ۲۸-۲۹)، سورہ یونس (۱۰: ۳۰)۔

تعلق باللہ کی متعدد صورتیں ہیں۔ انہیں حسبِ حال اختیار کرنا چاہیے۔ چند ایک کا مختصراً تذکرہ کیا جاتا ہے۔

● اللہ کا ذکر: اللہ تعالیٰ کی یاد زبان و دل اور احساس و شعور سے کرنا، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے اور چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر جاری رہے۔ بزرگوں نے بہت سے اذکار مسنونہ و ماثورہ لکھے ہیں۔ اللہ کا ذکر تعلق باللہ کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں ذکر اللہ کا کلمہ اور ترکیب ۲۹۰ مرتبہ آئی ہے۔ ان میں دو تہائی اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ اس یاد میں تقویٰ کی کیفیت بھی ہے تو قلبی و روحانی پاکیزگی بھی۔ مسنون دعائیں اور ماثورہ دعویہ زندگی کے تمام معاملات کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا کام جیسے چھینک آنا، پانی پینا، کھانا کھانا، اس سے فارغ ہونا، حتیٰ کہ کپڑا پہننا، بیت الخلا میں داخل ہونا یا باہر نکلنا۔ کوئی تکلیف پہنچنا، کوئی راحت و نعمت حاصل ہونا بہر حال ذکر اللہ سے خالی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دو افراد باہم ملیں تو سلام (ذکر و دعا) سے ملیں۔

● نماز: نماز میں ذکر کے کئی پہلو ہیں بلکہ خود نماز کو ذکر اللہ کہا گیا ہے:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (الجمعة ۹:۶۲) اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔

سلف صالحین اور شہدا و دعاۃ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے تو نماز کی طرف سبقت کی۔ قرآن مجید نے فرمایا: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (البقرة: ۱۵۳ و ۱۵۵)** ”صبر اور نماز سے مدد لو اور تقویت حاصل کرو“۔

نماز کے کئی اہم پہلو ہیں جیسے دلی اطمینان حاصل ہونا، اجر و ثواب کا ملنا، برائیوں سے بچنا، شیطان اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنا، دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنا اور ابتلا سے بچر و خوبی گزر جانا، نیز نماز باجماعت اور نظامِ صلوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے۔

بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا براہِ راست اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے اور درمیان سے سب واسطے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

● تہجد: داعی اور مومن کامل کے لیے تہجد ضروری ہے۔ تہجد اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ سے استعانت اور اس کی یاد کا بہترین طریقہ ہے، لہذا داعی حضرات اور آزمائش میں مبتلا شخص کے لیے اس کی ادا کی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نماز تہجد کو قیام اللیل قرار دیا ہے جس سے مراد سجدوں اور رکوعوں میں رات گزارنا، اللہ تعالیٰ سے رگوگڑا کر دعائیں مانگنا اور اپنے کام میں تقویت حاصل کرنا ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے مطالعہ کریں: بنی اسرائیل ۱۷: ۷۹، المزمل ۳: ۷۳: ۲-۲۰، الفرقان ۳۰: ۶۴، الدھر ۶۶: ۲۶، السجدہ ۳۲: ۱۶، آل عمران ۳: ۱۹۱، النساء ۴: ۱۰۳)

● تلاوت قرآن مجید: تعلق باللہ کا ایک مضبوط ذریعہ کتاب اللہ کی تلاوت ہے۔ ارشاد باری ہے: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (ال عمران ۳: ۱۰۳) ”سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو“۔ ایک روایت میں حبیل اللہ قرآن مجید کو کہا گیا۔ آپ نے فرمایا: ”قرآن اللہ کی مضبوط رسی اور اس کی سیدھی راہ ہے“۔ (ابن کثیر، ج ۱، ص ۳۸۸)

تلاوت کا لطف اور مزہ اس وقت حاصل ہوگا جب خوش الحانی، یک سوئی اور ٹھکر و تذبذب کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ اس قسم کی تلاوت سے وقتی طور پر دکھ درد دور ہو جاتے ہیں اور آدمی اپنے آپ کو راحت میں محسوس کرتا ہے۔ لہذا صبح و شام اور سفر و حضر میں تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں اور مشکل اوقات میں صحابہ کرامؓ تلاوت کرتے تھے اور کتاب اللہ کی تلاوت سے قوت اور سہارا لیتے تھے۔ حضرت جعفرؓ سے جب شاہ حبشہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی تلاوت کی۔ اس سے ایک طرف ان کو اطمینان ہوا تو دوسری طرف یہ تلاوت ان کے لیے حق گوئی، بے باکی اور ابتلا سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی۔ اس طرح تلاوت میں ضروری آداب کا ملحوظ رکھنا، صحیح تلفظ سے ادا کیگی، اس کے معنی اور مفہوم پر نظر رکھنا اور اس میں غور کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی برکات اور فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی:

اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَيْبِخَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَجَلَاءَ
أَحْرَانِنَا، يَا اللَّهُ! قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا
دے، ہمارے خوف کے دفع کرنے اور ہمارے غم کا مداوا بنا دے۔

انبیاء کی سیرت و کردار کا مطالعہ

ابتلا میں عام طور پر سابقہ انبیا کی سیرت کا پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، ان کی ابتلا و آزمائش کا گہرا مطالعہ کرنا اور انھوں نے جس طرح ثابت قدمی دکھائی، اسے سامنے رکھنا اور ان کے اسوہ سے تقویت حاصل کرنا اور خود کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام کی سیرت میں صبر و ثبات اور ثابت قدمی کے بے شمار نمونے سامنے آتے ہیں۔ عقیدت اور یقین سے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے۔

سیرت مصطفیٰ سے رہنمائی

ابتلا و آزمائش میں گرفتار شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور احادیث کا مطالعہ کرے تو قدم قدم پر آپ کی ابتلا و آزمائش کے نمونے سامنے آئیں گے۔ دورِ طفولیت سے لے کر اس دنیا سے آپ کے تشریف لے جانے تک قدم قدم پر آپ کو مختلف آزمائشوں سے واسطہ پیش آیا ہے۔ ذہنی، جسمانی، مالی و معاشرتی اور تمدنی معاملات میں آپ کو نکالیف پہنچانی گئیں۔ آپ کے پیارے ساتھیوں کو بے حد ستایا گیا۔ لہذا آپ کے امتیوں اور پیروکاروں کو آپ کے اسوہ حسنہ سے تقویت و اہمیت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ کے ان فرمودات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جن میں ایک طرف سابقہ اُمم کے واقعات بتا کر ان کی ثابت قدمی اور صبر کی کیفیت بیان کر کے مثالیں دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ابتلا میں ثابت قدم رہنے کا اجر و ثواب بیان اور آخرت کی کامیابی کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ یہ بھی تقویت کا ذریعہ ہیں۔

اجتماعیت سے جڑنا اور صالحین سے تعلق

اسلام کا مجموعی مزاج اور نظام اجتماعی ہے۔ اس میں انفرادیت اور انفرادی زندگی کا بہت کم حصہ ہے۔ لہذا مومن کو عام حالات میں بھی تنہائی سے بچنا چاہیے بلکہ اجتماعیت اختیار کر لینی چاہیے۔ ارشاد باری ہے: ”تم میں ایک اُمّت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے جو معروف (بھلائی) کا حکم دے اور برائی سے روکے اور وہی لوگ کامیاب ہیں“ (العمرن ۳: ۱۱۴)۔ مزید فرمایا: ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو“۔ (التوبة ۹: ۱۱۹)

اجتماعیت سے جڑنے سے، اور اجتماعیت بھی ایسی جو پورے دین پر عمل کرنے اور اسے نافذ کرنے کا کام کرتی ہو، آدمی سنبھل جاتا ہے، اسے سہارا ملتا ہے، تقویت پہنچتی ہے اور یہ ہمت افزائی کا سبب بن جاتی ہے اور اسے ابتلا سے نکال لیتی ہے۔

ابتلا کے دنوں میں صالحین سے تعلق مضبوط کرنا، اجتماعیت کے ذمہ داروں سے مزید قریب ہونا، ان سے اپنے حالات بیان کرنا، اپنی مشکلات اور مصائب کا اظہار کرنا، اپنے نفس کی حالت بتانا، ان سے رہنمائی اور مشورہ لینا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ان سے ملنا چاہیے۔ اگر نفس میں غرور و تکبر ہے یا غلط اوہام ہیں یا قوتِ فیصلہ کم نہیں کر رہی تو ان کا علاج معلوم کرنا چاہیے۔

ایک روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کرتا تو نقصان نہ اٹھاتا۔ (شرح اربعین نوویٰ | بن رجب حنبلی)۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَسَلِّطْنَا آهْلَ الْبَيْتِ لِيَعْلَمُوا مَا فِي قُلُوبِهِمْ (النحل: ۱۶، الانبیاء: ۲۱)۔ ”اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔“ لہذا اہل علم و دانش اور اس راہ کے راہی، داعیوں اور مبلغوں سے مشاورت کرنا فائدہ مند ہے۔ مشورہ اور خیر میں کئی پہلو ہیں، اس لیے مومن کو چاہیے کہ اچھے، نیک، با کردار لوگوں سے ہر اہم معاملے میں مشورہ لیتا رہے اور اسے اپنا طریقہ و تیرہ بنا لے۔ عام طور پر ابتلا میں لوگ اس کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں میں کھو جاتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے بلکہ نااہل اور نابلد لوگوں سے مشورہ کرنے کی وجہ سے مزید الجھ جاتے ہیں اور الجھے رہتے ہیں۔

دعوت کا کام

ابتلا و آزمائش میں مومن کو چاہیے کہ دعوتی تحریکوں اور تنظیموں سے مل کر دعوتی اور اصلاحی کام کرے۔ خاص طور پر جماعت اسلامی سے مضبوطی و دل جمعی سے وابستہ ہو کر اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اقامتِ دین کی کوشش کرے۔ اسی طرح دوسری دعوتی تنظیموں سے بھی حسب حال جڑا جاسکتا ہے۔

جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون کے پاس زمانہ حال میں رہنمائی کرنے والا وسیع لٹریچر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے اسلام کے تمام انفرادی اور اجتماعی کاموں پر روشنی ڈالی ہے اور ہر زاویے سے اسلام کی نمایندگی اور وضاحت کی ہے۔

جماعت اسلامی کے شائع کردہ لٹریچر میں مولانا مودودیؒ کا وسیع لٹریچر اتنا جامع، مکمل اور دین کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اگر درسِ نظامی کا ایک فارغ التحصیل عالم مطالعہ کرے تو وہ جدید علوم سے روشناس ہو جاتا ہے اور موجودہ دور کے تقاضوں کو سمجھ کر دین کے کام کا واضح لائحہ عمل پاتا ہے، جب کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو دین کا فہم نصیب ہوتا ہے اور عمل کی ترغیب ملتی ہے۔

دعوتی کام کرنے سے دینی احکام کی عملی تعلیم حاصل ہوتی ہے اور انسان عملی طور پر دینی احکام کا عادی بن جاتا ہے۔ اسی لیے طبیعت میں دین رچ بس جاتا ہے۔ دعوتی کام میں کسی جماعت کے ساتھ ہونے سے ہم خیال اور ایک راہ کے راہی لوگوں سے جڑ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اگر ایک گر رہا ہے تو دوسرے اسے سنبھالنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ پھر معاشرتی، معاشی، اخلاقی لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے معاون بن جاتے ہیں اور تنگی تشری میں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ اس طرح ایک کفالتی (مالی تعاون کا) نظام بن جاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ تازہ دور کی ایک مثال فلسطین کی سب سے بڑی جماعت حماس ہے جس نے لاکھوں مصیبت زدہ اور جنگ کے مارے ہوئے، لٹے پٹے خاندانوں کی ایک عرصے تک کفالت کر کے مدینہ کی مواخات کا سبق عملاً دہرایا۔

صبر اختیار کرنا

صبر ابتلا میں سے نکلنے کے لیے ایک اہم عنصر ہے۔ کتاب اللہ میں ابتلا کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عام طور پر صبر کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۱۵۷ میں ہے: **وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ** اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ (مزید دیکھیے: سورہ محمد ۷: ۳۱، البقرہ ۲: ۱۷۲-۲۲۹، آل عمران ۳: ۱۶-۱۷، ہود ۱۱: ۴۹، الصافات ۳: ۱۰۳-۱۰۴، الاحقاف ۴۶: ۳۵، الفرقان ۲۵: ۲۲، الانعام ۶: ۳۴، الکہف ۱۸: ۲۸)

صبر کرنے سے بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور برداشت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور ضبطِ نفس کی صفت سے بندہ متصف ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں صبر کا کلمہ ۹۲ مرتبہ آیا ہے اور ان میں سے اکثر ابتلا میں صبر کرنے کے لیے ہے۔

دعا کا ہتھیار

ابتلا و آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کا ایک بڑا وسیلہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے“ (مشکوٰۃ)۔ دعا تعلق باللہ کا بڑا ذریعہ، دلی تسلی کا مضبوط وسیلہ، اجر و ثواب کا باعث، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا بہترین عمل اور دنیا و آخرت کے خسارے سے محفوظ رکھنے کا سبب ہے، لہذا مومن کو ابتلا میں خاص طور پر اور عام حالات میں بھی دعا کی کثرت رکھنی چاہیے کیونکہ مومن کی دعا کبھی بے کار نہیں جاتی بلکہ اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو بندہ بروقت، ہر جگہ اور ہر حالت میں کر سکتا ہے۔

علما و شہدا کو نمونہ بنانا

علماء، شہداء، صالحین کی سیرت کو نمونہ بنانا چاہیے۔ ابتلا میں گھرے ہوئے مومن کو چاہیے کہ سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ جاری رکھے اور ان سے تقویت حاصل کرے۔ ان کی سیرتوں میں سیکڑوں ہزاروں ایسے نمونے موجود ہیں جس سے ابتلا میں رہنمائی ملتی ہے۔ ان نمونوں میں ان لوگوں کا ابتلا میں صبر و ثبات، حق گوئی، تعلق باللہ نمایاں ہے۔ اس لیے ابتلا میں گھرے ہوئے شخص کو ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

دعوت دین میں مصروف و مشغول لوگوں کو ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی غائبانہ دعائیں پہنچتی رہتی ہیں، نیز ان ساتھیوں کی طرف سے دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ان کی دعائیں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ بہر حال ابتلا و آزمائش کے وقت انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے اور شیطان کے وسوسوں اور شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے۔

اس دور میں مسلم اُمہ پر اجتماعی طور پر اور دعوت کا کام کرنے والوں پر خاص طور پر بڑی ابتلائیں اور آزمائشیں آئی ہیں۔ اس طرح انفرادی طور پر بھی کافی لوگ اس سے گزرے ہیں۔ ان میں مصر کے علما و دعاۃ اور صلحا گرفتار ہوئے، نیز شام، ترکی، سوڈان اور دیگر ممالک سے وابستہ افراد کی طویل فہرست ہے۔ ان کے ہراول دستے میں محمد بن عبدالوہاب، سید محمد احمد مصری سوڈانی، سید جمال الدین افغانی، امام محمد عبدہ، رشید رضا مصری، امام حسن البنا شہید، سید ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا محمود حسن، مولانا محمد قاسم نانوتوی، فقیرا پٹی، ملّا شور بازار، مولانا تاج محمود امرٹی، سید قطب شہید، عبدالقادر عودہ شہید شامل ہیں، جنہوں نے تمام تر خطرات و مشکلات کو انگیز کر کے اُمت کو

روشن شاہراہ دی اور بہت بڑا علمی ذخیرہ چھوڑا۔ کچھ لوگ گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن اور بے بسی کی حالت میں ہجرت کر کے نکلے لیکن دین کے کام میں آخر دم تک مصروف رہے۔ ان کی فہرست تو بہت طویل ہے البتہ کچھ کا تذکرہ کیا جاتا ہے جیسے محمد غزالی، زینب الغزالی، عبدالبدیع صقر، محمد علی صابونی، ڈاکٹر یوسف قرضاوی، استاد عبداللہ العلوان، سعید رمضان، ڈاکٹر مصطفی السباعی، عبدالرحمن عزام، حسن الہضیبی، السید سابق، فواد سرگیس، عبدالوہاب خلاف، ڈاکٹر نبیل الطویل اور ڈاکٹر عبداللہ عزام شہید وغیرہ۔ یہ چند نام تو ان حضرات کے ہیں جنہوں نے زبان و قلم، علم و عمل سے جہاد کیا لیکن جنہوں نے اپنے مال و دولت اور جسم و جان سے اس راہ میں قربانیاں دیں وہ تو ان گنت ہیں، ایک طویل فہرست ہے۔ اس دور میں عزیمت اور ثابت قدمی کی مثالیں افغانستان میں بگرام اور قندھار کی جیلیں، عراق کی ابوغریب اور گوانتانامو بے کے قیدیوں اور بہن عافیہ صدیقی کی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو نشانِ راہ اور روشنی کے مینار ہیں۔

ایسے ہی لوگ اس آیت کے مصداق بنتے ہیں اور اس زمرے میں شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ۝ (الاحزاب: ۳۳: ۲۳) 'مومنوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی'۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنے دل و جان سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے اصلاح حال کے لیے مصروف ہیں۔ فرمایا: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت ۶۹: ۲۹) 'جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ان کو ہم اپنی راہوں کی ضرور ہدایت دیتے ہیں'۔

الغرض ابتلا و آزمائش مومن کے لیے ایک لازمی منزل ہے، لہذا اسے پہچاننا، اس کا احساس و شعور رکھنا، اس میں ثابت قدم رہنا، اس سے صحیح طور پر نکلنے کے لیے جدوجہد کرنا اور روحانی و مادی وسائل ڈھونڈنا مومن کا وتیرہ ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائیں۔ آمین!